

Urdu (اردو)

تعارفی رسومات

صلیب کی علامت

باپ ، اور بیٹ اور روح القدس ک
نام پر

آمین

سلام

مار خداوند یسوع مسیح کا فضل
، اور خدا کی محبت ، اور روح
القدس کی میل جول آپ سب ک
ساتھ رہیں

اور اپنی روح ک ساتھ

تذلیل کا ایکٹ

بھائیو (بھائیو اور بہنیں) ، آئی م
اپنے گناہوں کو تسلیم کریں ، اور
اس طرح مقدس اسرار کو منان
ک لئے خود کو تیار کریں

میں اللہ تعالیٰ سے اعتراف کرتا
ہوں اور آپ کے لئے ، میرے بھائیو
اور بہنیں ، کہ میں نے بت گناہ کیا
، میرے خیالات میں اور میرے
الفاظ میں ، میں نے کیا کیا اور
میں کیا کرنے میں ناکام رہا ہوں ،
میری غلطی کے ذریعے ، میری
غلطی کے ذریعے ، میری انتہائی
تکلیف دہ غلطی کے ذریعے ؛ لہذا
میں مبارک مریم کو ہمیشہ کے
ویرگین سے پوجھتا ہوں ، تمام
فرشتے اور سنت ، اور آپ ، میرے
بھائیو اور بہنیں ، میرے لئے خداوند
مار خدا سے دعا کرنا

اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے ، مار
گناہوں کو معاف کرے ، اور ہمیں
لازوال زندگی میں لائیں

آمین

Italian (Italiano)

Riti introduttivi

Segno della croce

Nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.

Amen

Saluto

La grazia di nostro Signore Gesù Cristo,
e l'amore di Dio, e la comunione dello
Spirito Santo Sii con tutti voi.

E con il tuo spirito.

Atto penitenziale

Fratelli (fratelli e sorelle), riconosciamo i
nostri peccati, E così preparaci a
celebrare i misteri sacri.

Confesso a Dio Onnipotente E a te,
fratelli e sorelle, che ho molto peccato,
Nei miei pensieri e nelle mie parole, In
quello che ho fatto e in quello che non
sono riuscito a fare, Attraverso la mia
colpa, Attraverso la mia colpa,
Attraverso la mia colpa più grave; quindi
chiedo a Blessed Maria sempre virgin,
Tutti gli angeli e i santi, E tu, i miei
fratelli e sorelle, Pregare per me al
Signore nostro Dio.

Possa Dio onnipotente avere pietà di noi,
Perdonaci i nostri peccati, e portaci alla
vita eterna.

Amen

Urdu (اردو)

کبری

رب رحم کر

رب رحم کر

مسیح، رحم کرو.

مسیح، رحم کرو.

رب رحم کر

رب رحم کر

گلوریا

سب سے زیادہ خدا کی شان، اور
زمین پر اچھے لوگوں کے لیے امن
م تیری تعریف کرتے ہیں، م آپ
کو برکت دیتے ہیں، م آپ کو پسند
کرتے ہیں، م تیری تسبیح کرتے
ہیں، م تیری عظیم شان کے لیے
تیرا شکر ادا کرتے ہیں، خداوند
خدا، آسمانی بادشاہ، اے خدا، قادر
مطلق باپ خداوند یسوع مسیح،
اکلوتا بیٹا، خداوند خدا، خدا کا بڑا،
باپ کا بیٹا، آپ دنیا کے گناہوں کو
دور کرتے ہیں، م پر رحم فرما آپ
دنیا کے گناہوں کو دور کرتے ہیں،
ماری دعا قبول کرو تم باپ کے
دائیں ہاتھ بیٹھو، م پر رحم
فرما۔ آپ کے لیے اکیلا ہی مقدس
ہیں، صرف تو ہی رب صرف
آپ ہی اعلیٰ ترین ہیں حضرت
عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس
کے ساتھ، خدا باپ کے جلال میں
آمین

جمع کریں

میں نماز پڑھنا دو.

آمین

کلام کی کٹائی

پہلا پڑھنا

رب کا کلام

خدا کا شکر .

Italian (Italiano)

Kyrie

Signore, abbi pietà.

Signore, abbi pietà.

Cristo, abbi pietà.

Cristo, abbi pietà.

Signore, abbi pietà.

Signore, abbi pietà.

Gloria

Gloria a Dio nel più alto, e sulla terra
pace a persone di buona volontà. Ti
lodiamo, Ti benediamo Ti adoriamo ti
glorifichiamo, Ti diamo grazie per la tua
grande gloria, Signore Dio, re celeste, O
Dio, Padre Onnipotente. Signore Gesù
Cristo, solo figlio generato, Signore Dio,
agnello di Dio, figlio del Padre, togli i
peccati del mondo, avere pietà di noi;
togli i peccati del mondo, ricevere la
nostra preghiera; Sei seduto alla mano
destra del padre, Abbi pietà di noi. Solo
per te sei quello santo, Solo tu sei il
Signore, Solo tu sei il più alto, Gesù
Cristo, con lo Spirito Santo, Nella gloria
di Dio il Padre. Amen.

Raccogliere

Preghiamo.

Amen.

Liturgia della parola

Prima lettura

La parola del Signore.

Grazie a Dio.

Urdu (اردو)

ذم داری زیور

دوسری پڑھنا

رب کا کلام

خدا کا شکر

انجیل

رب آپ کے ساتھ و

اور اپنی روح کے ساتھ

کے مطابق مقدس انجیل سے ایک N
پڑھنا

ا رب، تیری شان

خداوند کی انجیل

خداوند یسوع مسیح آپ کی

ستائش کریں

ایمان کا پیشہ

میں ایک خدا کو مانتا ہوں، قادر
مطلق باپ، آسمان اور زمین کا
بنا، والا، ظاہر اور پوشیدہ تمام
چیزوں میں سے میں ایک خداوند
یسوع مسیح پر یقین رکھتا ہوں،
خدا کا اکلوتا بیٹا، تمام عمروں سے
پہلے باپ سے پیدا ہوا خدا سے
خدا، روشنی سے روشنی، سچا خدا
سے سچا خدا، پیدا ہوا، نہیں بنایا
گیا، باپ کے ساتھ مطابقت رکھتا
اُس کے ذریعے تمام چیزیں بنی
تھیں ہمارے آدمیوں کے لیے اور
ہماری نجات کے لیے اور آسمان سے
نیچے آیا، اور روح القدس کے ذریعے
کنواری مریم کا اوتار تھا، اور
انسان بن گیا۔ ہماری خاطر و
پونٹیس پیلطس کے تحت مصلوب
ہوا، اس کی موت ہوئی اور اس
دفن کیا گیا اور تیسرے دن دوبار
جی اُٹھا صحیفوں کے مطابق و
آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کے
دائیں ہاتھ پر بیٹھا و پھر جلال
میں آگے زند اور مرد کا

Italian (Italiano)

Salmo responsoriale

Seconda lettura

La parola del Signore.

Grazie a Dio.

Vangelo

Il Signore sia con te.

E con il tuo spirito.

Una lettura dal Santo Vangelo secondo
N.

Gloria a te, o signore

Il Vangelo del Signore.

Lode a te, Signore Gesù Cristo.

Professione di fede

Credo in un solo Dio, il padre
Onnipotente, Creatore del cielo e della
terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore Gesù Cristo,
l'unico figlio generato di Dio, nato dal
padre prima di tutte le età. Dio da Dio,
Luce dalla luce, vero Dio dal vero Dio,
generato, non fatto, consustanziale con
il padre; Tutto è stato fatto tramite lui.
Per noi uomini e per la nostra salvezza è
sceso dal cielo, e dallo Spirito Santo era
incarnato della Vergine Maria, e divenne
uomo. Per il nostro bene è stato
crocifisso sotto Ponzio Pilato, Ha sofferto
la morte ed è stato sepolto, e si è di
nuovo alzato il terzo giorno in accordo
con le Scritture. È salito in paradiso ed è
seduto alla mano destra del padre. Verrà
di nuovo nella gloria giudicare i vivi e i
morti E il suo regno non avrà fine. Credo
nello Spirito Santo, nel Signore, il
donatore della vita, che procede dal
padre e dal figlio, che con il padre e il

Urdu (اردو)

فیصلہ کرنا اور اس کی بادشاہی
کی کوئی انتہا نہ ہوگی میں روح
القدس پر یقین رکھتا ہوں، خداوند،
زندگی دینے والا، جو باپ اور بیٹے
سے نکلتا ہے، جو باپ اور بیٹے کے
ساتھ سجدہ اور جلالی ہے، جس نے
نبیوں کے ذریعے کلام کیا ہے
میں ایک، مقدس، کینہولک اور رسولی
چرچ پر یقین رکھتا ہوں میں
گناہوں کی معافی کے لیے ایک
بپتسمہ کا اقرار کرتا ہوں اور میں
مردوں کے جی اٹھنے کا منتظر
ہوں اور آج والی دنیا کی زندگی
آمین

homily

عالمگیر دعا

م رب سے دعا کرتے ہیں

اے رب، ہماری دعا سن

یوکرست کی لیٹورجی

آفرٹری

خدا ہمیشہ کے لیے مبارک ہو

دعا کرو، بھائیو (بھائیو اور بہنو)، کہ

میری اور تمہاری قربانی ہو سکتا

اللہ کو قبول ہو قادر مطلق

باپ۔

رب آپ کی قربانی قبول فرمائے

اس کے نام کی تعریف اور جلال کے

لیے، ہماری بھلائی کے لیے اور اس

کے تمام مقدس چرچ کی بھلائی

آمین

یوکرستک دعا

رب آپ کے ساتھ ہو

اور اپنی روح کے ساتھ

اپنے دلوں کو اٹھاؤ

م اُن کو رب کی طرف اٹھاتے

ہیں

Italian (Italiano)

figlio è adorato e glorificato, che ha
parlato attraverso i profeti. Credo in una
chiesa santa, cattolica e apostolica.
Confesso un battesimo per il perdono dei
peccati e non vedo l'ora di risurrezione
dei morti e la vita del mondo a venire.
Amen.

Omelia

Preghiera universale

Preghiamo il Signore.

Signore, ascolta la nostra preghiera.

Liturgia dell'Eucaristia

Offertorio

Benedetto sia Dio per sempre.

Prega, fratelli (fratelli e sorelle), che il
mio sacrificio e il tuo può essere
accettabile per Dio, il padre onnipotente.

Possa il Signore accettare il sacrificio
nelle tue mani per la lode e la gloria del
suo nome, per il nostro bene e il bene di
tutta la sua santa chiesa.

Amen.

Preghiera eucaristica

Il Signore sia con te.

E con il tuo spirito.

Solleva i tuoi cuori.

Li solleviamo al Signore.

Urdu (اردو)

آئیے ہم رب اپنے خدا کا شکر ادا کریں

یہ صحیح اور منصفانہ
پاک، مقدس، پاک رب الافواج
آسمان و زمین تیرے جلال سے
معمور ہیں حسنہ اعلیٰ میں
مبارک و جو خداوند کے نام پر
آتا حسنہ اعلیٰ میں

ایمان کا راز

ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں
اے رب! اور اپنی قیامت کا دعویٰ
کریں جب تک آپ دوبارہ نہ آئیں
یا: جب ہم یہ روٹی کھاتے ہیں اور
یہ پیالہ پیتے ہیں، ہم تیری موت کا
اعلان کرتے ہیں، اے رب، جب تک
آپ دوبارہ نہ آئیں یا: ہمیں بچا،
دنیا کے نجات دہندے، آپ کی صلیب
اور قیامت کی طرف سے آپ نے
میں آزاد کیا

آمین

اجتماعی رسم

نجات دہندے کے حکم پر اور خدائی
تعلیم کے ذریعے تشکیل دیا گیا،
ہم یہ کہنے کی جسارت کرتے ہیں:
ہمارے باپ، جو آسمان پر ہیں،
مقدس تیرا نام: تیری بادشاہی
آئیے، آپ کی مرضی پوری ہو جائے
گی زمین پر جیسا کہ آسمان میں
آج کے دن میں ہماری روز
کی روٹی دے، اور ہماری خطائیں
معاف فرما، جیسا کہ ہم ان لوگوں
کو معاف کرتے ہیں جو ہمارے
خلاف گناہ کرتے ہیں اور ہمیں
آزمائش میں نہ ڈالیں، لیکن ہمیں
برائی سے بچا

ہمیں برائی سے نجات دے، اے
رب، ہم دعا کرتے ہیں، مہربانی
سے ہمارے دنوں میں امن عطا

Italian (Italiano)

Ringraziamo il Signore nostro Dio.

È giusto e giusto.

Santo, santo, santo Signore Dio degli ospiti. Il paradiso e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nel più alto. Beato colui che viene nel nome del Signore. Osanna nel più alto.

Il mistero della fede.

Proclamiamo la tua morte, o Signore, e professiamo la tua risurrezione finché non torni. O: Quando mangiamo questo pane e beviamo questa tazza, Proclamiamo la tua morte, o Signore, finché non torni. O: Salvaci, salvatore del mondo, per dalla tua croce e risurrezione Ci hai liberati.

Amen.

Rito di comunione

Al comando del Salvatore e formato dall'insegnamento divino, osiamo dire:

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo Regno, saranno fatti sulla terra come è in paradiso. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e perdonci le nostre trasgressioni, come perdoniamo coloro che violano contro di noi; e non ci guidano in tentazione, ma liberaci dal male.

Liberaci, signore, preghiamo, da ogni male, concedere gentilmente la pace ai nostri giorni, Questo, con l'aiuto della tua

Urdu (اردو)

فرما، ک تیری رحمت سے ہم
میشہ گنا سے آزاد ہو سکتے
ہیں اور تمام پریشانیوں سے
محفوظ جیسا کہ ہم مبارک امید کا
انتظار کر رہے ہیں اور ہمارے
نجات دہندے، یسوع مسیح کی آمد
بادشاہی کے لیے، طاقت اور جلال
آپ کا اب اور میسہ کے لئے۔
خداوند یسوع مسیح، جس نے آپ
کے رسولوں سے کہا: امن میں آپ
کو چھوڑتا ہوں، اپنا امن میں آپ
کو دیتا ہوں، ہمارے گناہوں کو مت
دیکھو لیکن آپ کے چرچ کے ایمان
پر، اور فضل سے اس امن اور
اتحاد عطا فرمائے آپ کی مرضی
کے مطابق۔ جو میسہ اور اب تک
زندہ اور حکومت کرتے ہیں
آمین

خداوند کی سلامتی میسہ آپ کے
ساتھ رہے
اور اپنی روح کے ساتھ
آئیے ایک دوسرے کو امن کا نشان
پیش کریں
خدا کے برے، تم دنیا کے گناہوں کو
دور کرتے ہو، ہم پر رحم فرما۔ خدا
کے برے، تم دنیا کے گناہوں کو دور
کرتے ہو، ہم پر رحم فرما۔ خدا کے
برے، تم دنیا کے گناہوں کو دور کرتے
ہو، ہمیں امن عطا فرما۔
خدا کے برے کو دیکھو، اس کو دیکھو
جو دنیا کے گناہوں کو لے جاتا
مبارک ہیں وہ لوگ جو برے کے
عشائے کے لیے بلائے گئے ہیں
اے رب، میں اس لائق نہیں ہوں
کہ تم میری چہت کے نیچے داخل
ہو، لیکن صرف لفظ کے ساتھ اور میری
جان ٹھیک ہو جائے گی
مسیح کا جسم (خون)

Italian (Italiano)

misericordia, Potremmo essere sempre
liberi dal peccato e al sicuro da ogni
angoscia, Mentre attendiamo la
speranza benedetta e la venuta del
nostro Salvatore, Gesù Cristo.

Per il regno, Il potere e la gloria sono tuoi
adesso e per sempre.

Signore Gesù Cristo, Chi ha detto ai tuoi
apostoli: Pace ti lascio, la mia pace ti do,
Non guardare sui nostri peccati, Ma sulla
fede della tua chiesa, e concederle
gentilmente la pace e l'unità In
conformità con la tua volontà. Che
vivono e regnano per sempre.

Amen.

La pace del Signore sia sempre con te.

E con il tuo spirito.

Offriamo l'un l'altro il segno della pace.

Agnello di Dio, togli i peccati del mondo,
Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, togli i
peccati del mondo, Abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, togli i peccati del mondo,
Concedi pace.

Ecco l'agnello di Dio, Ecco colui che
toglie i peccati del mondo. Beati quelli
chiamati alla cena dell'agnello.

Signore, non sono degno che dovresti
entrare sotto il mio tetto, Ma dire solo la
parola e la mia anima saranno guarite.

Il corpo (sangue) di Cristo.

Urdu (اردو)

آمین

میں نماز پڑھنا دو.

آمین

اختتامی رسومات

برکت

رب آپ کے ساتھ و

اور اپنی روح کے ساتھ

قادر مطلق خدا آپ کو خوش رکھے،

باپ، اور بیٹا، اور روح القدس

آمین

برطرفی

آگ بڑھو، اجتماع ختم ہو گیا

یا: جاؤ اور خداوند کی انجیل کا

اعلان کرو یا: سکون سے جاؤ،

اپنی زندگی سے خداوند کی تمجید

کرو یا: سکون سے جاؤ

خدا کا شکر .

Italian (Italiano)

Amen.

Preghiamo.

Amen.

Riti conclusivi

Benedizione

Il Signore sia con te.

E con il tuo spirito.

Possa Onnipotente Dio benedirti, il

Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Amen.

Licenziamento

Vai avanti, la massa è finita. O: vai e annuncia il vangelo del Signore. Oppure:

vai in pace, glorificando il Signore dalla tua vita. O: vai in pace.

Grazie a Dio.

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC